



Roll No. _____

Answer Sheet No. _____

Sig. of Candidate. _____

Sig. of Invigilator. _____

BANKING HSSC-II

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

NOTE: Section-A is compulsory. All parts of this section are to be answered on the question paper itself. It should be completed in the first 20 minutes and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

Q. 1 Circle the correct option i.e. A / B / C / D. Each part carries one mark.

- (i) Which document is **NOT** attached to the application for the registration of bank?
- A. Memorandum of bank B. Articles of bank
C. Prospectus of bank D. Certificate of incorporation
- (ii) The Primary objective of the Central bank is to:
- A. Earn profit B. Advance Loans to traders
C. Protection of National interests D. All of these
- (iii) Who started the use of bank draft?
- A. Kings B. Merchants C. Money Lenders D. Goldsmiths
- (iv) Which of the following functions are performed by commercial bank?
- A. Issuance of Currency Notes B. Credit creation
C. Rediscounting of bills D. Preparation of monetary policy
- (v) The part of deposits kept with the Central bank is called:
- A. Cash Reserve B. Margin C. Interest Rate D. All of these
- (vi) Which of the following functions is **NOT** performed by Central bank?
- A. Credit creation B. Advance loans
C. Lender of last resort D. Banker of Public
- (vii) If credit money is controlled by the Sale and Purchase of government securities, it is called:
- A. Direct Action B. Moral Persuasion
C. Change in Reserve Ratio D. Open market operation
- (viii) Scheduled bank means a bank which is registered with:
- A. Stock Exchange B. Central bank
C. World bank D. All of these
- (ix) Which of the following accounts is non-transferable?
- A. Saving Account B. Fixed deposit Account
C. Current Account D. None of these
- (x) Which bank account is exempted from income tax and Zakat?
- A. Saving Account B. Fixed deposit Account
C. Foreign Currency Account D. All of these
- (xi) Which of the following **cannot** be accepted by bank as security at the time of granting loan?
- A. Gold and Silver B. Property
C. Shares and debentures of company D. Letter of credit
- (xii) A cheque which **cannot** be cashed at bank's counter is called:
- A. Bearer B. Order C. Crossed D. Plain
- (xiii) Who can cancel the crossing of cheque?
- A. Drawer B. Drawee C. Holder D. Endorser
- (xiv) Foreign Exchange Control reduces:
- A. Circulation of Capital B. Export of Capital
C. Import of Capital D. None of these
- (xv) Which of the following Credit Instruments is **NOT** used to finance the people who want to travel abroad?
- A. Traveller's letter of credit B. Traveller's cheque
C. Circular Note D. Promissory note

For Examiner's use only:**Total Marks:****15****Marks Obtained:**

بینکاری ایچ ایس ایس سی-II

حصہ اول (کل نمبر: 15)

وقت: 20 منٹ

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات پرچہ پر دیے جائیں گے۔ اس کو پہلے بیس منٹ میں مکمل کر کے ناظم مرکز کے حوالے کر دیا جائے۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں۔ لیزنٹل کا استعمال ممنوع ہے۔

سوال نمبر: دیے گئے الفاظ یعنی الف رب رج رد میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہر جزو کا ایک نمبر ہے۔

- (i) الف - بینک کا آئین ب - بینک کے قوانند و ضوابط ج - بینک کا پیش نامہ د - صداقت نامہ تفصیل
- (ii) الف - نفع کمانا ب - تاجروں کو قرضے فراہم کرنا ج - قومی مفاد کا تحفظ د - درج شدہ تمام
- (iii) الف - بادشاہوں نے ب - سودا گروں نے ج - مہاجنوں نے د - سفاروں نے
- (iv) الف - ایک تجارتی بینک درج ذیل میں سے کون سا فرض سر انجام دیتا ہے؟ ب - زر اعتبار تخلیق کرنا ج - ہنڈیوں پر دوبارہ لگانا د - زری پالیسی بنانا
- (v) الف - جمع شدہ امانتوں کا وہ حصہ جو مرکزی بینک کے پاس جمع کر دیا جاتا ہے کہلاتا ہے۔ ب - محفوظ زرفند ج - شرح سود د - درج شدہ تمام
- (vi) الف - درج ذیل میں سے کون سا فرض مرکزی بینک ادا نہیں کرتا؟ ب - زر اعتبار کی تخلیق ج - قرضے جاری کرنا د - بینکوں کی آخری پناہ گاہ
- (vii) الف - سرکاری کفالتوں کی خرید و فروخت کے ذریعے زر اعتبار کو کنٹرول کرنے کو کیا نام دیا جائے گا؟ ب - اخلاقی ترغیب ج - کھلے بازار کا عمل د - محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی
- (viii) الف - غیرتی بینک سے مراد ایسا بینک ہے جو رجسٹرڈ ہو۔ ب - سٹاک ایکسچینج میں مرکزی بینک میں ج - عالمی بینک میں د - درج شدہ تمام
- (ix) الف - درج ذیل میں سے کون سا کھاتہ ناقابل انتقال ہوتا ہے؟ ب - بچت کا کھاتہ ج - مدتی کھاتہ د - چلت کھاتہ
- (x) الف - کون سا کھاتہ زکوٰۃ اور مدنی ٹیکس سے مستثنیٰ ہوتا ہے؟ ب - بچت کھاتہ ج - مدتی کھاتہ د - غیر ملکی کرنسی کا کھاتہ
- (xi) الف - بینک قرضے جاری کرتے وقت درج ذیل میں سے کس کو بطور کفالت قبول نہیں کرتا؟ ب - سونا چاندی ج - جائیداد د - کمپنی کے حصص اور ترسکات
- (xii) الف - وہ کون سا چیک ہے جس کی رقم بینک کے کاؤنٹر سے براہ راست وصول نہیں کی جاسکتی؟ ب - حامل ج - حکمی د - سادہ
- (xiii) الف - چیک کی کراس کاری کو کون منسوخ کر سکتا ہے؟ ب - مرتب کنندہ ج - قابض د - تصدیق کنندہ
- (xiv) الف - زر مبادلہ پر قابو پانے سے کم ہوتی ہے؟ ب - سرمائے کی گردش ج - سرمائے کی درآمد د - درج شدہ میں سے کوئی نہیں
- (xv) الف - درج ذیل میں سے کونسا ایسا آئندہ اعتبار ہے جو غیر ممالک کے سفر کے لیے لوگوں کو رقم مہیا کرنے کے لیے جاری نہیں کیا جاتا؟ ب - سیاح کا اعتباری خط ج - سیاحی چیک د - گروشی نوٹ



BANKING HSSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Answer any NINE parts. The answer to each part should not exceed 2 to 4 lines. (9 x 4 = 36)

- How was the word "Bank" derived?
- Describe the characteristics of good banking system.
- Describe the kinds of loans according to issue.
- What are the limitations of credit creation for a bank?
- What are the principles of Central bank?
- Write names of the quantitative methods of monetary policy.
- What do you mean by open market operation with reference to monetary policy?
- List down the contents of a Cheque Book.
- What are the important sources of bank funds?
- What is meant by crossing of Cheque?
- Define bank draft.
- What is meant by "Foreign Exchange"?

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 12 = 24)

- Discuss in detail the functions of Central bank.
- Differentiate between Bill of Exchange and Promissory Note.
- Define Exchange Rate. Explain kinds of exchange Rate. Also write down causes of change in the exchange Rate.

حصہ دوم (کل نمبر 36)

(9x4=36)

سوال نمبر ۲: مندرجہ ذیل اجزاء میں سے نو (09) کے دو سے چار سطروں تک محدود جوابات لکھیں:

- | | |
|--|--|
| (i) لفظ بنک کس طرح اخذ ہوا؟ | (ii) اچھے نظام بنکاری کی خصوصیات لکھیں۔ |
| (iii) اجراء کے لحاظ سے قرض کی اقسام بتائیں۔ | (iv) بنک کے ذراقتہ تخلیق کرنے کے عمل میں رکاوٹ بننے والے عوامل کون سے ہیں؟ |
| (v) مرکزی بنک کے اصول کون سے ہیں؟ | (vi) زرعی پالیسی کے مقداری طریقوں کے نام لکھیں؟ |
| (vii) زرعی پالیسی کے طریقہ 'کھلے بازار کے عمل' سے کیا مراد ہے؟ | (viii) چیک بنک کے اندراجات کے نام لکھیں۔ |
| (ix) بنک فنڈز کے اہم ذرائع کون سے ہیں؟ | (x) چیک کی کراس کاری سے کیا مراد ہے؟ |
| (xi) بنک ڈرافٹ کی تعریف کریں۔ | (xii) مبادلہ خارجہ سے کیا مراد ہے؟ |

حصہ سوم (کل نمبر 24)

(2x12=24)

(کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

سوال نمبر ۳: مرکزی بنک کے فرائض تفصیلاً بیان کریں۔

سوال نمبر ۴: ہندی اور تحریری وعدہ میں فرق بیان کریں۔

سوال نمبر ۵: شرح مبادلہ کی تعریف کریں؟ شرح مبادلہ کی اقسام لکھیں۔ نیز شرح مبادلہ میں تبدیلی کی وجوہات لکھیں۔